


This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.




This work is licensed under a Creative Commons

[Attribution 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>





میرے گاؤں میں بہت سے مسائل تھے۔ ہم نے ایک نل سے پانی  
بھرنے کے لیے ایک لمبی قطار بنائی۔

...

My village had many problems. We made a long  
line to fetch water from one tap.

We waited for food donated by others.

...

-تراہیہ! ۱۶؟ کتر تہ سے طر کی سوسہ ہو





چوروں کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کو جلدی بند کر دیا۔

...

We locked our houses early because of thieves.




ہم سب نے ایک آواز سے کہا، 'ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا۔' اس دن سے ہم نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ساتھ مل کر کام کیا۔

...

We all shouted with one voice, "We must change our lives." From that day we worked together to solve our problems.


Another man stood up and said, "The men will dig a well!"


...  
 - کہے گھوڑا اور آدھی گھڑی  
 اترا اور آدھی گھڑی گھوڑا اور آدھی گھڑی



Many children dropped out of school.

...  
 - کہے گھوڑا اور آدھی گھڑی  
 اترا اور آدھی گھڑی





نوجوان لڑکیوں نے دیگر گاؤں میں نوکرانی کے طور پر کام کیا۔

...

Young girls worked as maids in other villages.



ایک عورت نے کہا، 'خواتین کھانے میں اضافہ کرنے میں شمولیت اختیار کر سکتی ہیں۔'

...

One woman said, "The women can join me to grow food."



ہتھ کر مد میں صفائی میں، کہا، جمعہ آج پتھ پتھ اور خبت اور خبت

ہوں۔

Eight-year-old Juma, sitting on a tree trunk shouted, "I can help with cleaning up."

...




بوجوان بڑے بڑے کے اے، گھوڑے جنڈے جنڈے بڑے بڑے تھتھ

تھتھ

Young boys roamed around the village while others worked on people's farms.


...



جب ہوا چلی فالتو کاغذ درختوں اور جنگلوں پر لٹک گئے۔

...

When the wind blew, waste paper hung on trees and fences.



میرے والد کھڑے ہو گئے اور کہا، 'ہمیں اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لئے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔'

...

My father stood up and said, "We need to work together to solve our problems."



People gathered under a big tree and listened.

...

لوگ پڑے، درخت کے نیچے جمع ہوئے اور انہوں نے سنا۔



People were cut by broken glass that was  
thrown carelessly.

...

آگے  
نے اسیطہ سے پھینکے گئے ٹکڑے کی وجہ سے لوگوں کو تھ





اور ایک دن نل سوکھ گیا اور ہمارے برتن خالی ہو گئے۔

...

Then one day, the tap dried up and our containers were empty.



میرے باپ نے گھر گھر جا کے لوگوں کو گاؤں کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے کہا۔

...

My father walked from house to house asking people to attend a village meeting.